

# اونٹاریو میں ملازمت کے معیارات

ملازمت کے معیارات سے متعلق ایکٹ، 2000 [Employment Standards Act (ESA)] اونٹاریو میں بیشتر جائے کار کے لیے کم از کم معیارات متعین کرتا ہے۔ بعض ملازمین پر مخصوص اصول اور استثناء کا اطلاق ہوتا ہے۔

## آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

**چھٹی کا وقت اور ادائیگی:** بیشتر ملازمین کو ہر 12 ماہ کے بعد کم از کم 2 ہفتے کی چھٹی ملتی ہے۔ انہیں چھٹی کی تنخواہ کے طور پر اپنی کمائی ہوئی کل اجرت کے کم از کم 4% کی ادائیگی کی جانی چاہیے۔

**سرکاری تعطیلات:** اونٹاریو میں ہر سال 9 سرکاری تعطیلات ہیں۔ بیشتر ملازمین ان دنوں کو کام سے چھٹی لینے اور سرکاری تعطیل کی ادائیگی پانے کے حقدار ہیں۔

**غیرحاضری کی چھٹیاں:** بہت ساری ملازمت محفوظ مگر بلا معاوضہ غیر حاضری کی چھٹیاں ہیں بشمول حمل، والدینی، خاندان کی نگران، اور نجی ہنگامی چھٹی۔

**موقوفی کی اطلاع اور ادائیگی:** اکثر حالات میں، ملازمین کو ملازمت ختم کرنے اور / یا معطلی کی تنخواہ کے لیے نوٹس کے بجائے لازمی طور پر پیشگی تحریری نوٹس دینا چاہیے۔  
[Ontario.ca/terminationofemployment](http://Ontario.ca/terminationofemployment) پر مزید جانیں۔

**دیگر ESA حقوق اور مخصوص اصول:** اس پوسٹر میں مندرجہ کے علاوہ دیگر حقوق نیز مخصوص اصول ہیں بشمول سبکدوشی کا معاوضہ سے متعلق حقوق اور عارضی مدد والی ایجنسی کے تفویض شدہ ملازمین کے لیے مخصوص اصول۔

**ESA کے حقوق استعمال کرنے کے لیے**  
ملازمین کو کسی بھی طریقے سے سزا دینا  
آجروں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

**کام کے گھنٹے اور کھانے کے وقفے:** روزانہ اور ہفتہ واری کام کے گھنٹوں کی حدود طے ہیں۔ بعض شرائط پوری کرنے پر ملازمین زیادہ کام کرسکتے ہیں۔ ملازمین کو 30 منٹ کے کھانے کا وقفہ لیے بغیر مسلسل 5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک کام نہیں کرنا چاہیے۔ [Ontario.ca/hoursofwork](http://Ontario.ca/hoursofwork) پر مزید جانیں۔

**اوور ٹائم کی ادائیگی:** زیادہ تر کاموں کے لیے ہفتے میں 44 گھنٹوں کے کام کے بعد اوور ٹائم واجب الادا ہوتا ہے۔ اوور ٹائم کی شرح ادائیگی کی معمول کی شرح کا کم از کم 1 1/2 گنا ہونا چاہیے۔

**اقل اجرت:** زیادہ تر ملازمین کم از کم اقل اجرت کی ادائیگی کے مستحق ہیں۔ موجودہ شرحوں کے لیے [Ontario.ca/minimumwage](http://Ontario.ca/minimumwage) ملاحظہ کریں۔

**ادائیگی کا دن:** ملازمین کو لازماً مستقل ادائیگی والے دن میں ادائیگی کی جانی چاہیے اور اجرت کا اسٹیٹمنٹ ملنا چاہیے۔

**مزید معلومات کے لیے وزارت محنت (Ministry of Labour) سے رابطہ کریں۔**

ہمیں 416-326-7160، 1-800-531-5551، یا TTY 1-866-567-8893 پر کال کریں، یا ہماری ویب سائٹ

[Ontario.ca/employmentstandards](http://Ontario.ca/employmentstandards) ملاحظہ کریں۔ معلومات متعدد زبانوں میں دستیاب ہیں۔